



کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں کینیڈا ڈے 2021 کی تقریبات

برامپٹن، آن (28 جون 2021) – کینیڈا ڈے بروز جمعرات، مورخہ 1 جولائی کو واقع ہو گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جو اس دن سٹی آف برامپٹن کی خدمات کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 311 پر یا 905.874.2000 (برامپٹن کے باہر سے) پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے) استعمال کر سکتے ہیں، www.311brampton.ca ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا بذریعہ ای میل 311@brampton.ca بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں۔ کووڈ-19 سے متعلقہ سوالات کے لیے، www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

آتش بازیوں سے حفاظت

کینیڈا ڈے سال کے ان چار دنوں میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی وکٹوریہ ڈے، دیوالی اور نیو اینرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔

چھوٹی حد والی آتش بازیوں کی فائر ورکس بائی لاء کے مطابق اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیوں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دور جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ دیگر تمام راکٹ کے طرز کی آتش بازیوں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کروانا ہے کہ گلیوں، سائڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا دیگر میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

نجی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- پانی کا ایک برتن یا ہوز لائین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جلائیں یا پکڑیں۔
- آتش بازیوں کو کبھی بھی دوسرے لوگوں پر نہ پھینکیں یا ان کی جانب موڑیں۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔

اضافی حفاظتی مشوروں کے لیے www.brampton.ca/fireworks ملاحظہ کریں۔

ہر سال، آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آتش بازیوں فروخت کرنے کا لائسنس حاصل کرنے سے پہلے سٹی کی جانب سے تربیت حاصل کریں۔ سٹی نے وینڈرز کو ان لائن تربیت کی پیشکش کی تھی۔ کینیڈا ڈے کے لیے آتش بازیوں کے کوئی بھی لائسنس جاری نہیں کیے گئے۔ اگر رہائشی اسٹورز یا برامپٹن میں دیگر کسی جگہ آتش بازیوں فروخت ہوتے دیکھیں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن 311 موبائل ایپ کے ذریعے، [ان لائن](http://www.311brampton.ca) یا 311 پر کال کر کے ان کے متعلق سروس برامپٹن کو اطلاع دیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ



برامپٹن ٹرانزٹ کینیڈا ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی لیکن کچھ روٹس منسوخ ہوں گے۔ درج ذیل روٹس سروس فراہم کریں گے:

- 501 زوم کوئین
- 502 زوم مین
- 505 زوم بوویرڈ
- 511 زوم سٹیلز
- 1 کوئین
- 2 مین
- 3 مک لافنن
- 4 چنگو اکوسی
- 5 بوویرڈ
- 7 کینیڈی
- 8 سنٹر
- 11 سٹیلز
- 14 ٹوربریم
- 15 برامیلا
- 18 ڈگری
- 23 سینٹل ووڈ
- 29 ولیمز
- 30 ایئرپورٹ روڈ
- 35 کلارک وے
- 50 گور روڈ
- 52 میک مرچی
- 53 رے سن
- 56 کنگ نول
- 57 شیرولیس
- 115 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس

کینیڈا ڈے پر ٹرمینلز میں کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہوں گے۔ کینیڈا ڈے پر کنٹیکٹ سنٹر صبح 9 تا شام 6 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے، کال سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنا ممکن ہو جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ سواروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنا ذاتی ہیڈ سینیٹائزر، مثلاً ہیڈ سینیٹائزر یا وائپس، ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپیسمنٹ سائٹیٹ سے ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔



BRAMPTON

Service and Information Update

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا www.bramptontransit.com یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن پارکس

برامپٹن کی تمام تفریح ٹریلز، کھیل کے میدان اور پارکس، بشمول کتوں کے لیے پٹے سے آزاد پارکس، کینیڈا ڈے کے لیے کھلے ہیں۔ جسمانی سرگرمی تمام لوگوں کی صحت و بہبود کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ برامپٹن میں پارکس میں تشریف لا رہے ہیں، تو براہ کرم یاد رکھیں کہ بیرونی جگہوں پر سماجی اجتماعات کی حد 10 افراد ہے۔ ہمارے پارکس اور ٹریلز دریافت کرنے کے لیے www.brampton.ca/parks ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ریکریٹیشن

اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے بیرونی سہولیات، بشمول پارک کلاسز اور بیرونی سپلش پیڈز، کے متعلق معلومات کے لیے www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

سٹی آف برامپٹن ریکریٹیشن سنٹرز کووڈ-19 کے خلاف صوبائی اقدامات کے نتیجے میں عارضی طور پر بند ہیں۔ ورجونل پروگرامز اور خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/reathome ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

کینیڈا ڈے کے موقع پر برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں بند رہیں گی۔

کتابیں آن لائن ادھار لینے اور ای بکس، ای آڈیو بکس، ٹی وی اور مووی اسٹریمنگ، آن لائن تعلیم، آرٹس اینڈ کرافٹس کی ہدایات اور مزید دریافت کرنے کے لیے کسی بھی وقت [برامپٹن لائبریری کی ویب سائٹ](http://www.brampton.ca/libraries) ملاحظہ کریں، جو سب آپ کے لائبریری کارڈ کے ساتھ مفت ہے۔

[برامپٹن لائبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے](http://www.brampton.ca/libraries)، براہ کرم یہاں کلک کریں۔ تمام شاخوں میں 24 گھنٹے چلنے والے بیرونی ڈراپ باکسز کے ذریعے اپنی ادھار لی جانے والی چیزوں کو لچکدار طریقے سے واپسی سے لطف اندوز ہوں۔ [کیلنڈر آف ایونٹس](http://www.brampton.ca/libraries) پر ہمارے ورجونل پروگرامز میں شرکت کرنے کے لیے اور ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے، بشمول برامپٹن لائبریری یوٹیوب پیج پر ہفتہ وار [ورجونل سٹوری ٹائمز](http://www.brampton.ca/libraries) سے لطف اندوز ہونے کے لیے رجسٹر ہوں اور منصوبہ بندی کریں۔

آئیں رابطے میں رہیں! [ہماری ای میل اپ ڈیٹس اور نیوز لیٹرز کو سبسکرائب کریں](http://www.brampton.ca/libraries) اور ہمیں [فیسبک](https://www.facebook.com/bramptonlibraries)، [انسٹاگرام](https://www.instagram.com/bramptonlibraries)، [لنکڈ ان](https://www.linkedin.com/company/bramptonlibraries) اور [یوٹیوب](https://www.youtube.com/channel/UCqKqKqKqKqKqKqKqKqKqKq) پر فالو کریں۔

برامپٹن لائبریری کو اس بات کی تصدیق کرنے پر خوشی ہے کہ اس کی فور کارنرز، چنگواکوسی اور سپرنگ ڈیل شاخیں محدود خدمات کے لیے دوبارہ کھل گئی ہیں۔ سائرنل کلارک، گورمیڈوز، ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج، ساؤتھ فلیچرز اور ساؤتھ ویسٹ شاخوں پر کرب سائیڈ پک اپ کی سہولت دستیاب رہے گی۔ [تفصیلات کے لیے](http://www.brampton.ca/libraries)، [براہ کرم ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں](http://www.brampton.ca/libraries)۔ ہم آپ کی تشریف آوری کے لیے پر امید ہیں۔

برامپٹن اینیمل سروسز

برامپٹن اینیمل شیلٹر کینیڈا ڈے پر بند رہے گا۔

اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح 7 تا رات 10 بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن 8 تا شام 6:30 بجے تک سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا:

- بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانور کے اٹھانے کے لیے
- جارحانہ جانور



- آزاد بھاگنے والا کتا
- کتے کے کاٹنے کی تحقیق
- پکڑے جانے والے آوارہ کتے کو اٹھانا
- کسی مردہ جانور کو اٹھانا

اس اوقات کے علاوہ، اینیمل کنٹرول صرف بنگامی حالات کا ردعمل دے گا۔

کینیڈا ڈے کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

اپنے اور دوسروں کے کووڈ-19 سے تحفظ کے لیے عوامی صحت کے ان اقدامات کی پابندی کریں:

- اندرونی اور بیرونی اجتماعات کے متعلق صوبائی ہدایات پر عمل کریں اور مختلف گھرانوں کے افراد کے درمیان جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔
- اگر آپ کو اپنے گھرانے سے باہر کسی شخص سے ملنا پڑے، تو چار بنیادی افعال پر عمل کریں:

- 2 میٹرز کا فاصلہ رکھیں
- ماسک پہنیں
- اپنے ہاتھ اکثر دھوئیں
- اگر بیمار ہوں، تو گھر رہیں

- قریبی رابطے کو ان لوگوں تک محدود کریں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہوں اور جو آپ کے لیے بنیادی معاون ہیں (مثلاً نگہداشت کنندگان)
- جب بیمار ہوں تو گھر پر رہیں، بے شک اگر علامات ہلکی ہوں۔

-30-

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

ایشلے ہاکنز

کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ – پبلک ہیلتھ

ریجن آف پیل

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca